



## Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة النجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.1  
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى

قسم ہے تارے کی جب گرے (غروب ہو)۔

.2  
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا مَأْخَوْيٰ

بہ کا نہیں تمہارا فیق، اور بے راہ نہیں چلا،

.3  
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى

اور نہیں بولتا اپنی چاؤ (خواہش نفس) سے۔

.4  
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

یہ تو حکم (وہی) ہے جو پہنچتا ہے۔

.5  
عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقَوْى

اس کو سکھایا سخت قوت دالے نے،

.6

ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوْى

زور آورنے۔ پھر سیدھا بیٹھا (پورا نظر آیا)۔

.7

وَهُوَ بِالْأَفْقَنِ الْأَعْلَى

اور وہ تھا اونچے کنارے آسمان کے،

.8

ثُمَّ دَنَّافَتَدَلَّ

پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا۔

.9

فَكَانَ قَابَ قَوْسِينِ أَوْ أَدَنِي

پھر رہ گیا فرق دو کمان کامیانہ، یا اس سے بھی نزدیک۔

.10

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر، جو بھیجا۔

.11

مَا كَذَبَ الْفَؤَادُ مَا هَرَأَى

جھوٹ نہ دیکھا دل نے جود دیکھا۔

.12

أَفَتَمَاهُونَهُ عَلَى مَا يَرَى

اب تم کیا اس سے جھگڑتے ہوا س پر جو اس نے دیکھا؟

.13

وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى

اور اس کو اس نے دیکھا ہے ایک دوسرے اُتارے میں،

.14

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

پر لی حد کی بیری (سدراۃ المنتہی) پاس،

.15

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى

اس پاس ہے بہشت (جنت الماوی) رہنے کی۔

.16

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى

جب چھار ہاتھا اس بیری پر جو کچھ چھار ہاتھا،

.17

مَازَاغَ الْبَصْرُ وَمَا طَغَى

بہکی نہیں نگاہ، اور حد سے نہیں بڑھی۔

.18

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

بیشک دیکھے اپنے رب کے بڑے نمونے۔

.19

أَفَرَأَيْتُمُ الْلَّاتَ وَالْعَزَّى

بھلا تم دیکھو تولات اور عزی،

.20

وَمَنَّاتَةُ الْقَالِثَةِ الْآخِرَى

اور مناۃ وہ تیسری پچھلی۔

.21

أَلْكُمُ الَّذِي كَرِولَةُ الْأُنْثَى

کیا تم کو بیٹے اور اس کو بیٹیاں؟

.22

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيَزَى  
تو تو یہ بانٹا بھونڈا (دھاندلی کی تقسیم)۔

.23

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيتُهَا أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ  
یہ سب نام ہیں، جو رکھ لئے تم نے، اور تمہارے باپ دادوں نے اللہ نے نہیں اُتاری انکی کوئی سند۔

إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ

نزی اُنکل (خواہش) پر چلتے ہیں، اور جو جیوں کے چاؤ (خواہشات نفس) ہیں

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى

اور (حالانکہ) پہنچ ان کو ان کے رب سے راہ کی سو جھ۔

.24

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَكَّنَ

کہیں آدمی کو ملتا ہے جو چاہے۔

.25

فِلَلَهِ الْأُخْرَةُ وَالْأُولَى

سوال اللہ کے ہاتھ ہے پچھلی (آخرت) اور پہلی (دنیا)۔

.26

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا

اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں، کام نہیں آتی ان کی سفارش کچھ،

إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے۔

.27

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَ الْمُلَائِكَةَ تَسْمِيهَا الْأُنْثَىٰ

جو لوگ یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر (آخرت) کا، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کو نام زنانہ۔

.28

وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ عَلِمٍ

اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں۔

إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الضَّلَّ وَإِنَّ الضَّلَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحُقْقِ شَيْئًا

زندگی کی اٹکل (گمان) پر چلتے ہیں، اور اٹکل (گمان) کام نہ آئے ٹھیک بات میں کچھ۔

.29

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا (دنیاوی زندگی)۔

.30

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

یہاں ہی تک پہنچی ان کی سمجھ۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ

تیر ارب ہی بہتر جانے جو بہ کا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانے، جو آیا راہ پر۔

.31

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں،

لِيَجُزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجُزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

تا (کہ) وہ بد لہ دیوے برائی والوں کو ان کے کئے کا، اور بد لہ دے بھلائی والوں کو بھلائی۔

.32

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهُمَّ

جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، مگر کچھ آلو دگی۔

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ

بیشک تیرے رب کی بخشش میں سمائی (وسیع مغفرت کرنے والا) ہے۔

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا نَسِيْكُمْ مِنَ الْأَنْتَصِرِ وَإِذَا نَهْمَمْ أَجِنَّةً فِي بُطُولِنِ أَمْهَاتِكُمْ

وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب نکالا تم کو زمین سے، اور جب تم بچتے ماں کے پیٹ میں،

فَلَاتَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ

سو مت بولو اپنی سترہ ایاں (دعویٰ کرو پا کیزگی کا)۔

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

وہ بہتر جانے اُسے جو (متقیٰ ہے) نج چلا۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلََّ

بھلاتونے دیکھا وہ جس نے منه پھیرا (پھر گیاراہ حق سے)

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى

اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا۔

أَعْنَدَكُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى

کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے۔

.33

.34

.35

.36

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِهَا فِي صُحْفِ مُوسَى

کیا اس کو خبر نہیں پہنچی جو ہے ورقوں (صحیفوں) میں موسیٰ کے

.37

وَإِلَّا هِيمَ الَّذِي وَفَّى

اور ابراہیم کے، جن نے پورا اتارا،

.38

الَّاتِزِرَوَازِرَةُ وَزِرَ أَخْرَى

کہ اٹھاتا نہیں اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا،

.39

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو کمایا (جس کی کوشش کی)،

.40

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھانی ہے،

.41

ثُمَّ يُجَزِّأُهُ الْجُزَاءُ الْأَوَّلُ

پھر اس کو بدله دینا ہے اس کا پورا بدله۔

.42

وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

اور یہ کہ تیرے رب (ہی) تک پہنچنا (ہے آخر کار)،

.43

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

اور یہ کہ وہی ہے ہنساتا اور زلاتا،

.44

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

اور یہ کہ وہی ہے مارتا اور جلاتا (زندہ کرتا)،

.45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اللَّذِكَرَ وَالْأُنْثَى

اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نز اور مادہ،

.46

مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى

ایک بوند سے جب ٹپکائے،

.47

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى

اور یہ کہ اس پر لازم ہے دوسرا (دوبارہ) اٹھانا،

.48

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَى

اور یہ کہ اس نے دولت دی اور پونجی،

.49

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِى

اور یہ کہ وہی ہے رب شعری (ستارہ) کا،

.50

وَأَنَّهُ أَهْلُكَ عَادًا الْأُولَى

اور یہ کے اس نے کھپا (ہلاک کر) دیئے عاداگے،

.51

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ

اور شمود، پھر (کچھ) باقی نہ چھوڑا۔

.52

وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلٍ

اور (ہلاک کر دیا) نوح کی قوم اس سے پہلے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظَلَمُ وَأَطْغَى

وہ تو تھے اور بھی ظالم اور شریر۔

.53

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَى

اور اٹی بستی کو پڑکا،

.54

فَعَشَّاهَا مَا غَشَّى

پھر اس پر چھایا جو چھایا۔

.55

فِيَأَيِّ الْأَءِرَبِلَقَ تَثَمَّارَى

اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلائے گا؟

.56

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذِيرِ الْأُولَى

یہ (محمد) ایک ڈرسنا نے والا ہے، پہلے سنانے والوں میں کا (کی طرح)۔

.57

أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ

آپنی آنے والی (گھٹری قیامت کی)،

.58

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھوں دکھانے (ٹالنے والا) والا۔

.59

أَفَمِنْ هَذَا الْحُكْمِ يُشْتَرِكُونَ

کیا تم اس بات سے اچنھا کرتے ہو؟

.60

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

اور ہنستے ہو اور روتے نہیں،

.61

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ

اور تم کھلاڑیاں کرتے (ٹالتے) ہو۔

.62

فَاسْجُدُوا إِلَيَّهٗ وَاعْبُدُوا

سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی۔ (سجدہ)

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)